

07 مئی، 2019

عزیزی اہل خانہ،

نیویارک شہر کے طلباء، خاندانوں اور عملے کی صحت اور بہبود محکمہء تعلیم کے لیے اولین ترجیحات ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ پبلک اسکول کے طلباء میں میزلز کے حالیہ کیسز کے بارے میں اہم معلومات بانٹنا چاہتے ہیں۔ ان طلباء نے بیماری کے دوران اسکول میں شرکت نہیں کی تھی، اور طلباء کو اسکول میں شرکت کرنے کے دوران میزلز لگنے کا خطرہ نہیں ہے۔

مدافعتی ٹیکے میزلز سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر کوئی شخص جس نے میزلز، ممپس، اور روبیلا (MMR) کی دو خوراکیں موصول کی ہیں انہیں یہ انفیکشن لگنے کا امکان نہیں ہے۔ اس وقت، پبلک اسکولوں میں مدافعتی ٹیکوں کی اونچی شرح کے باعث طلباء نہایت کم خطرے میں ہیں۔

بطور ایک یاد دہانی کے، نیویارک ریاست عوامی صحت قانون پبلک اسکولوں میں شرکت کرنے کے لیے تمام طلباء سے، ماسوا ان کے جن کے پاس منظور کردہ اسٹٹو ہے، مدافعتی ٹیکے لگوانا یا میزلز کے خلاف مدافعت کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ schools.nyc.gov/immunization پر اسکول کے مدافعتی ٹیکوں کی مطلوبات دیکھ سکتے ہیں یا www.nyc.gov پر جائیں اور "immunization requirements" "مدافعتی ٹیکوں کے مطلوبات" تلاش کریں۔

میزلز ایک وائرس کی انفیکشن ہے جس سے بخار اور دا زہ ہوتے ہیں۔ اس انفیکشن سے پیچیدگیوں میں نمونیا، دماغی سوزش، ہسپتال میں داخلہ اور ممکنہ موت شامل ہیں۔ یہ انتہائی متعدی مرض ہے اور کوئی بھی جن کو اس وائرس کے خلاف ٹیکے نہیں لگے ہیں انہیں یہ کسی بھی عمر میں لگ سکتی ہے۔ 9 اپریل کو ہیلتھ کمشنر نے ہر بالغ اور بچے کو جو زپ کوڈز 11205، 11206، 11211 اور 11249 میں رہتے ہیں اور میزلز، ممپس اور روبیلا (MMR) کی ویکسین موصول نہیں کی ہے، ویکسین لگوانے کا حکم دیا ہے۔

ہم آپ کی یہ یقینی بنانے کے حوصلہ افزائی کریں گے کہ خاندان کے تمام افراد کو میزلز کے خلاف ٹیکے لگے ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کے مدافعتی ٹیکوں کے بارے میں غیر یقینی ہیں، اپنے بچے کے طبی فراہم کنندہ سے یہ تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کریں کہ ان کے مناسب ٹیکے لگے ہوئے ہیں یا وہ میزلز کے خلاف قوتِ مدافعت رکھتے ہیں۔ اس بارے میں معلومات کے لیے کہ آپ کہاں اپنے بچوں کو ٹیکے لگوا سکتے ہیں برائے مہربانی 311 کو فون کریں۔

Roger Platt

Roger Platt, MD

چیف ایگزیکٹو افسر
دفتر برائے اسکول میں صحت
نیویارک شہر محکمہ تعلیم